

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Halaal Meat

by Irshad Mahmood - Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

سورت النعام:

Surah-006 Al-Inaam

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بآيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ (۱۱۸)

118. اترقم اس (اللہ) کے حکامات ایمان رکھتے ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس (حلال قرار دے ہوئے جانور) کو کھاؤ۔

118. Eat of that over which the name of Allah hath been mentioned, if ye are believers in His revelations. (8:6)

Eat of that over which the name of Allah has been mentioned, if you are believers in His revelations. (Al_Quraan_006.118)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَّآيٰتِ الشَّيْطٰنِ

لِيُؤْخَذَ اِلَيْهِ اُولٰٓئِيْهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اطَعْتُمْهُمْ اِنَّكُمْ

لَمُشْرِكُوْنَ (۱۲۱)

121. اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ (چاہے وہ حلال جانور کا گوشت ہی کیوں نہ ہو) کیوں کہ بے شک اور فسق (گناہ، مافرمائی) ہے۔ بے شک!

شیاطین اپنے پیلوں (ساتھیوں) کو تمہارے ساتھ جھگڑا اور بحث کرنے کے لیے اکٹھے ہیں لیکن اگر تم لوگ ان کا کہنا مان لو گے تو تم سبھی حقیقت میں شرکین بن جاؤ گے۔

121. And eat not of that whereon Allah's name hath not been mentioned, for lo! it is abomination. Lo! the devils do

inspire their minions to dispute with you. But if ye obey them, ye will be in truth idolaters. (8:6)

And do not eat of that on which Allah's name has not been mentioned, and that is most surely a transgression; and most surely the Shaitaans suggest to their friends that they should contend with you; and if you obey them, you shall most surely be polytheists. (Al_Quraan_006.121)

He hath forbidden you dead meat (including naturally dead Fish, not the one which you caught live and then they die outside the water), and blood, and the flesh of swine/pork, and that on which any other name hath been invoked besides that of Allah. But if one is forced by necessity, without willful disobedience, nor transgressing due limits, - then is he guiltless. For Allah is Oft-forgiving Most Merciful. (Al_Quraan_002.173)

Avoid following Ingredients:

Alcohol, Animal Fat, Bacon (Pork), Beef, Fat (Animal Fat including Pork), Gelatin {Pork, Beef (bone and or skin)}, Ham (Pork), Lard (Pork), Lecithin (made from Pork) (while Soya lecithin is Halaal), Rennet (Alcohol), Sausage, Shortening (animal) and Monoglycerides or Mono and Diglycerides made from animal (while Monoglyceride or Mono and Diglycerides made from Vegetable/Plant is Halaal).

Make Sure Your Income is Halaal.

Islaam is based on Truth and nothing BUT the Truth and those who indulge in Falsehood/Unjust are not Muslims.

Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors

<http://global-right-path.webs.com> <http://global-right-path.blogspot.com> <http://global-right-path.net16.net>

Email to global-right-path+subscribe@googlegroups.com to subscribe